



## مکمل اندراج - سوالات جو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔

یونان میں پناہ کے طریقہ کار میں بہت سے مراحل ہیں اور کبھی کبھی یہ جاننا کہ ہر مرحلے پر کیا متوقع ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ مکمل اندراج کی تقرری آپ کا پناہ، نقل مکانی یا خاندان سے ملاپ کے لیے انٹرویو نہیں ہے، بلکہ یونانی پناہ سروس کے پاس آپ کی ذاتی زندگی اور ماضی کے حالات کے بارے میں مزید جاننے کا ایک موقع ہے۔ یہ آپ کے لیے بھی ایک موقع ہے - کہ اگر آپ نے اندراج سے پہلے، یونانی پناہ سروس کو ان خطرات کے بارے میں نہیں بتایا، تو انہیں ضرور بتائیں جو آپ کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت اہم ہے کہ جب یونانی پناہ سروس آپ سے سوالات پوچھے تو آپ انہیں سچ بتائیں۔

یہاں پر آپ کو سوالات کی اقسام کی کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں جو کہ آپ سے مکمل اندراج کے دوران پوچھی جا سکتی ہیں - اگر آپ کے پاس ایسے دستاویزات موجود ہیں جو کہ آپ کے جوابات کی حمایت کرتے ہیں، تو آپ انہیں مکمل اندراج کی تقرری کے دوران اپنے ساتھ لیکر آئیں

- 1) آپ کا خاندانی نام اور درخواست گزار کا نام کیا ہے؟
- 2) آپ کے والدین کے خاندانی نام اور دونوں اطراف کے والدین کے نام کیا ہیں؟
- 3) آپ کی قومیت کیا ہے، یا بے وطن شخص ہونے کی صورت میں، آپ کون سے ملک کے سابقہ رہائشی ہیں؟
- 4) آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟
- 5) آپ کی پیدائش کی جگہ کیا ہے (ملک/ قصبہ یا گاؤں/ شہر)؟
- 6) آپ کی روانگی سے قبل آخری رہائش کی جگہ کیا ہے؟
- 7) آپ کا مرکزی درخواست گزار سے کیا تعلق ہے (خاندان کے افراد کے لیے)؟
- 8) آپ کا مذہب کیا ہے؟
- 9) آپ کی تعلیمی سطح کیا ہے؟
- 10) جس ملک سے آپ کا تعلق ہے، وہاں آپ کا پیشہ کیا تھا؟
- 11) آپ کی ازدواجی حیثیت کیا ہے؟ کیا آپ غیر شادی شدہ، شادی شدہ، طلاق یافتہ، بیوہ/ رنڈوے ہیں؟
- 12) شادی سے پہلے آپ کا خاندانی نام کیا تھا (خاص طور پر عورتوں کے لیے)؟
- 13) آپ کے شوہر/ بیوی کا کیا نام ہے اور کیا وہ یونان، تیسری دنیا یا دیگر یورپی یونین ممالک میں رہ رہے ہیں؟
- 14) آپ کے بچوں کے نام اور ان کی تاریخ پیدائش کیا ہیں؟ کیا یہ یونان، تیسری دنیا یا دیگر یورپی یونین ممالک میں رہ رہے ہیں؟
- 15) آپ کے بالغ بچے کیسے ہیں؟ وہ کسی زہنی یا جسمانی معذوری کا شکار تو نہیں؟
- 16) کیا آپ کے دیگر رشتہ دار (خاص کر والدین یا بہن بھائی) یونان، تیسری دنیا یا دیگر یورپی یونین ممالک میں رہ رہے ہیں؟
- 17) کیا پناہ کی تلاش میں آپ کا کوئی بھی رشتہ دار جو آپ پر انحصار کر رہا ہے اور کیوں؟
- 18) کیا آپ ایک تنہا نابالغ ہیں؟
- 19) ایک تنہا نابالغ کے سرپرست کی رابطہ تفصیلات کیا ہیں؟
- 20) یونان میں ان کا ٹیلیفون نمبر کیا ہے؟
- 21) یونان میں ان کا موبائل نمبر کیا ہے؟
- 22) ان کا ای میل کا پتہ کیا ہے؟
- 23) یونان میں ان کا پیشہ کیا ہے؟
- 24) یونان میں ان کے کام کرنے کی جگہ کا پتہ کیا ہے؟
- 25) کیا آپ کو پناہ گاہ کی ضرورت ہے؟
- 26) آپ نے اپنے ملک کو کب چھوڑا؟
- 27) یونان کے لیے اپنے سفر کے پروگرام کے متعلق مزید بتائیں؟



- 28) یونان میں داخلے سے پہلے، آپ ان ممالک میں کیوں نہیں ٹہرے کہ جن سے آپ عبوری طور پر گزر کر آئے ہیں؟
- 29) یونان میں آپ کے داخلے کی تاریخ کیا تھی؟
- 30) یونان میں آپ کے داخلے کی صبح جگہ کیا تھی؟
- 31) کیا آپ کے پاس پاسپورٹ ہے؟
- 32) اگر آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے؟
- 33) کیا آپ کے پاس اپنی قومیت کو ثابت کرنے کے لیے دیگر دستاویزات ہیں؟
- 34) کیا ماضی میں کبھی آپ نے یونان یا دیگر یورپی یونین ممالک کے لیے ویزہ حاصل کیا تھا؟
- 35) کیا آپ نے کبھی یونان یا دیگر یورپی یونین ممالک کا دورہ کیا؟
- 36) اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے، تو کس ملک کا؟
- 37) آپ نے وہاں کتنی مدت قیام کیا تھا؟
- 38) کیا ماضی میں آپ نے یونان میں پناہ کے لیے درخواست دی تھی؟
- 39) کیا ماضی میں آپ نے دوسرے یورپی یونین ممالک میں پناہ کے لیے درخواست دی تھی؟
- 40) کیا ماضی میں آپ نے کسی بھی دوسرے ملک میں پناہ کے لیے درخواست دی تھی؟
- 41) کیا آپ کے پاس یونان میں کبھی رہائشی اجازت نامہ تھا؟
- 42) کیا آپ کو کسی بھی طرح کے طبی مسائل کا سامنا ہے؟
- 43) اگر جواب ہاں میں ہے، تو کتنی مدت سے آپ ان طبی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں؟ یہ کب تشخیص کیا گیا تھا؟ کیا آپ اس طبی مسئلے کے لیے علاج کروا رہے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے، تو برائے مہربانی علاج کی وضاحت کیجیے۔ کیا یونان میں آپ کے پاس اپنے ڈاکٹر سے رابطے کی تفصیلات موجود ہیں؟ کیا آپ حاملہ ہیں؟ آپ کتنے ماہ کے حمل سے ہیں؟ اب تک اس حمل کے ساتھ آپ کو کسی بھی طرح کے مسائل کا سامنا تھا؟ کیا یونان میں آپ کو طبی امداد مہیا کی گئی تھی؟
- 44) کیا آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنا ملک کیوں چھوڑا؟ برائے مہربانی وجوہات ایک مختصر خلاصے کی صورت میں بیان کیجیے۔
- 45) کیا آپ کو کبھی کسی بھی جرم کی وجہ سے سزا ہوئی؟
- 46) اگر جواب ہاں میں ہے، کب؟ کس عدالت کے ذریعے؟ آگے کیا ہوا؟
- 47) کیا آپ پر کبھی کسی بھی ملک میں فردِ جرم عائد کیا گیا کہ جہاں کے لیے کاروائی زیر التواء ہے؟
- 48) کیا آپ نے کبھی ان کے لیے کام کیا:
- قومی مسلح افواج، غیر ریاستی مسلح افواج
- حکومت
- کسی بھی سرکاری ایجنسی
- عدلیہ
- پریس ایجنسیاں
- تحفظ فراہم کرنے والے ادارے (سرکاری/نجی)
- اگر ہاں، تو برائے مہربانی ان کا نام، محکمہ، عہدہ اور تاریخیں فراہم کیجیے۔
- 49) اپنے پناہ کے انٹرویو میں، آپ مرد یا عورت انٹرویو کرنے والے میں سے کس کو ترجیح دیں گے؟
- 50) کیا آپ کے پاس وہ دستاویزات موجود ہیں جو آپ جمع کروانے کی خواہش رکھتے ہو؟
- 51) کیا آپ پناہ کے حوالے سے فرہیم کی گئی تحریروں میں اضافہ اور/یا درستگی کرنا چاہیں گے؟